



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 22/9/2022

گورنر HOCHUL کی جانب سے نیو یارک کے شہریوں اور مہمانوں کو ہفتہ، 24 ستمبر کو مفت مچھلی پکڑنے کی دعوت

تمام سطح کی مہارت والے مچھلی پکڑنے والوں کو مفت میں ڈوری لگا کر مچھلی پکڑنے اور تازہ پانی کی ماہی گیری کے فوائد کا تجربہ کرنے کی ترغیب

گورنر Kathy Hochul نے آج ہفتہ، 24 ستمبر کو ریاست نیو یارک میں مفت ماہی گیری کا دن منانے کا اعلان کیا۔ تازہ پانی میں مفت ماہی گیری کا یہ دن ہر سال منعقد ہونے والے چھ ماہوں میں سے ایک ہے اور یہ [قومی شکار اور ماہی گیری کا دن](#) کے موقع پر ہوتا جو ان بیرونی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے منایا جاتا ہے جو نیو یارک کی معیشت میں اہم شراکت دار ہیں اور مچھلیوں اور جنگلی حیات کے تحفظ میں مدد فراہم کرتی ہیں۔

"بابلن سے لے کر بفلو تک، نیو یارک کے شہریوں کے لیے ماہی گیری کے مفت دن ایک بہترین موقع ہیں کہ وہ ریاست نیو یارک کے عالمی معیار کے ماہی گیری کے کئی مقامات میں سے ایک میں کھلی ہوا سے لطف اندوز ہو سکیں،" گورنر Hochul نے کہا۔ "میں ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ اس ویک اینڈ پر ماہی گیری کے مفت دن کا فائدہ اٹھائیں، نیو یارک کی مقامی معیشت کی معاونت کریں اور ہمارے قدرتی وسائل کے تحفظ اور ان کو بڑھانے کے لیے ہماری تحفظ کی وسیع کوششوں کے فوائد دیکھیں۔"

[مفت ماہی گیری کے دنوں](#) میں، نیو یارک کے رہائشی اور غیر رہائشی ماہی گیری کے لائسنس کے بغیر نیو یارک کے تازہ پانی میں مفت مچھلی پکڑ سکتے ہیں۔ ماہی گیری کے مفت دن کے شرکاء کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اگرچہ ماہی گیری کے لائسنس کی شرط ختم کر دی گئی ہے، تاہم ماہی گیری کے دیگر تمام ضوابط نافذ العمل ہیں۔ 2022 کا چھٹا اور آخری مفت ماہی گیری کا دن ویڈرنز ڈے، 11 نومبر 2022 کو ہے۔

ریاست نیویارک کا محکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ کے کمشنر Basil Seggos نے کہا، "DEC لوگوں کو ماہی گیری کے کھیل سے متعارف کرانے میں مدد کرنے کے لیے سارا سال مفت ماہی گیری کے دنوں کی حمایت کرنے پر بہت خوش ہے۔ HuntFishNY اسمارٹ فون ایپ پر ہمارے نئے ٹیکل باکس فیچر جیسی دیگر بہتریوں کے ساتھ، DEC پر علاقے میں جھیلوں، تالابوں، دریاؤں اور ندیوں میں بہترین ماہی گیری سے لطف اندوز ہونے کے لیے تمام مہارت کی سطحوں کے مقامی مچھلی پکڑنے والوں کے لیے ماہی گیری کو مزید قابل رسائی بنانے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔"

اس سے قبل اس موسم گرما میں، DEC نے ماہی گیری سے متعلق سیاحت کو بڑھانے اور نئے اور تجربہ کار مچھلی پکڑنے والوں کو نیو یارک بھر میں پیش کی جانے والی بہترین ماہی گیری سے لطف اندوز ہونے میں مدد کرنے کے لیے نیا 'ٹیکل باکس' فیچر شروع کیا۔ ٹیکل باکس کی خصوصیت DEC کے [HuntFishNY اسمارٹ فون ایپ](#) پر دستیاب ہے، (iOS اور Android کے لیے دستیاب) جو ماہی گیری کے تقریباً تمام ریاستی قواعد و ضوابط، آبی ذخائر، ریاست کے تحت چلائی جانے والی ماہی گیری تک رسائی کی سائنس، مچھلیوں کے ذخیرے کی معلومات اور دیگر مفید خصوصیات فراہم کرتی ہے جیسے تصاویر جن کے ذریعے ممکنہ طور پر کسی خاص دریا، جھیل یا ندی

میں پائی جانے والی مچھلیوں کی شناخت میں مدد مل سکے۔ HuntFishNY موبائل ایپ کے بارے میں مزید معلومات [DEC کی ویب سائٹ](#) پر مل سکتی ہے۔

ماہی گیری کے اپنے اگلے سفر کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے لیے DEC کے [بلیسز ٹو فش](#) ویب پیجز بھی ایک قابل اعتماد ذریعہ ہیں۔ نو آموز مچھلی پکڑنے والوں کے لیے، [I FISH NY](#) نو آموزوں کے لیے تازہ پانی میں مچھلی پکڑنے کی رہنما مہی گیری کی چھٹی میں کاتنا لگانے سے لے کر پکڑی گئی مچھلی کی شناخت اور ماہی گیری کے ضوابط کو سمجھنے تک ہر چیز کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

مفت ماہی گیری کے دنوں میں شرکت کے علاوہ، 16 سال اور اس سے زیادہ عمر کے مچھلی پکڑنے والوں کے پاس تازہ پانی میں مچھلی پکڑنے کے لیے ریاست نیو یارک کا ماہی گیری کا مؤثر لائسنس ہونا چاہیے۔ ماہی گیری کے لائسنس خریداری کی تاریخ سے 365 دنوں کے لیے مؤثر ہیں۔ تازہ پانی میں ماہی گیری کا لائسنس خریدنے کے بارے میں مزید معلومات [DEC کی ویب سائٹ](#) پر مل سکتی ہے۔ سمندری پانی کی ماہی گیری کے لیے ضروری، بغیر فیس کے تفریحی میرین فٹنگ رجسٹری کے بارے میں معلومات [یہاں](#) حاصل کی جا سکتی ہیں۔

نیو یارک کے باشندے [یہاں](#) سے لائسنس خریدنے کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں اور تازہ پانی میں ماہی گیری کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، سمندری پانی کی ماہی گیری کے بارے میں معلومات [یہاں](#) سے مل سکتی ہیں۔

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمر | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418